

دست خوبستہ صد بندی سکھ میاں جم پنے جو دستہ صد خارجہ ای بیم

دریگ

بھیشہ تاکہ چہاشت در جہاں باشی
نہ رار سالہ شوی پریو نوجواں باشی
سمجھن یو سنی و در کمال خوشیدی
تازہ کر کے تو ہمسر آسمان باشی
پکھار کوشش کر سالار کارواں باشی
پتہ د مرود از دوز کارواں بوں
حدیث دودہ تو دستان غلب و سخا
چنان لکن کہ تو پایاں استان لشی
ز جوش جذبہ بکتیانی تو جی ترسم
ب رفرگفتہ ام ایں بخت نہ پاس او
بے امداد خاتم کے نسل هر رواں باشی
اگر رسی تو باں بخت نکتہ نکتہ داں باشی

دعاے محظی دخستہ ز خدا ایس

کے شاد باشی بانام و بانش باشی

خیر مقدم نواب میر يوسف علی حوال سالار جنگ بھلو و مام اقبال
در عشا نیمه بھین طلباء قدمیم علیکم طور دلہ مار ۱۹۴۳ء

دل پر از چہرو دقا داریم ما خے احوال اصفاد اریم ما

سے اس نظم کے ماقعات یہ ہیں کہ ایکدن بھی میر شاہی حسین میر جو مدرک می آتا ہے جیسے علی داعی اسلام پر فیض نظام کانج
میر سے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ چند اجنبی طبقہ مدد کے نواب سالار جنگ بھلواد کی خدمت میں اس شخص سے جارہے ہیں کانج
تربیج کی ترغیب ہیں اور اس قدمیم خاندان کو بٹتے سے بے چالیں تم کو بھی چلن اور اس کے متعلق کچھ کہنا ہوگا۔ صاحبان رو سوت
کی خواہش کی تفصیل کرنی پڑی موجب پر طرف رہی تجوہ کچھ نہیں بکھر۔

سر پرست هاست شاہ ولن
کشتنی مارا ت طوفان نہا چبک
پنل و احسان نہا کے سرالا جنگ
اب رحمت بود پیر در سکاہ
خیر خواہ مک و علت ختنہ قوم
یاد کارش اندریں قحط الرجال
نامور یوسف عیلخان زندہ ہے
میرود بر سک ک جد و پدر
وستگیر ماست ور ہر کار قوم
کار ما جاریت دست قوتیت
از پے مکمل کشا یہا کے خوش
مرکز اسلام گرد فتوح
خدش فرض است بر جا گر پی
گفت المون ہوں اخوة“
میہماں آشپ مازمده پاؤ
کے سربال ہما داریم م
نا خدا نسل خدا داریم م
یاد از عهد حب داریم م
نالہ بر فوش بجا داریم م
دیگرے چوں او کجا داریم م
کیک جوان با صفا داریم م
ایں دعاصیح و مسا داریم م
زاں پسے ایس داریم م
ناز بر ذاش بجا داریم م
تا پھوا و حاجت و داریم م
زادہ مشکل کشا داریم م
گر سرما و شما داریم م
در دویں مصطفی داریم م
آنکہ اور ا پیشواد داریم م
از خدا لیں ایش داریم م

تضمین کیک مصہودہ ہندی

درخت بھی پڑھنے دل چارہ ہل کنم
تباہی افانہ گوئم تا بخے ہنون کشم
نیست تدبیر شجراں کنے سینہ اش بیرون کنم
یا بروایں نواے جانگا از شخون کنم

پران پتی من موہن پیائے

دل کی پتن بجھا جائے

وصل یا دشیں دل را پائیں آور و
کیک لگا لطف او صد ولت و دیں و و
بر جرچوں فریاد را بر کو دلگیں آور و
بر زبان بے اختیار ایں حرف شیریں و و

پران پتی

وپش محنوں محبت شو روٹر بیار دشت
ناہما آش فشاں دیدہ ہا خوب سار دشت

بخت خفتہ تا سحر بھارہ را بیس دشت
اندریں حال زبول ہم در دایں شعا دشت

پران پتی

مسنہ ٹاہو ہر ہوئیں صاحب مر جم خاذان راجگھاں بھجوہا ماضی بارہ بیگی ملک اودہ کے ایک رکن اور ہمایے
اعزا اور دستوں ہیں تھے۔ ایک دست سکھ حیدر آباد میں بیرے ساتھ او علیحدہ ہیں ویزان اور خان جھاڑیوں پرائے
ان کو ہندی صصرع مندرجہ بالا پہنچ پسند تھا۔ ان کی فراشیں اور اصرار پر تضمین کی گئی تھیں۔ شاہ صحت بحروف
حیدر آباد کی سے جاگ گجرات میں ہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔

دوش آمد در برم پیک تر زندانه تر گفت صحیحی باز کش این غم را استاد نزد

پران پی - - - - -

قطعہ

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| گریبی را شہر سکوئی عسلی را باب علم | پشم ماروشن دل ما شاد زین لاخطا |
| لیک کیک باب از پے شہر نبوت بس نبود | از بحوم عاصی عالم ز وفور شیخ دشاب |
| دست شہر نبوت چوں محیط چادر سوت | بہر شہرے ایں تھیں باید اقلائی چار باب |
| باب غرم و باب عدل باب حلم و باب علم | منگرو دنگ بخشی خدا را هصواب |
| رفت بیر و خواجہ چوں از چار حد محضری | چار پیارش جاشیں کشند ہر کیت لا جواب |

سے یہ رے ایک دست مولیٰ تھوڑا صاحب سلطان مدگاہتی مدت و حضرت بعد ادی صاحب علیم کے مقید تند دل میں تھے۔
ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت محمد نے مجھے بھیجا ہے اور یہ شہر خاتم رہایا ہے۔

مشہر علم صطفیٰ راجز علی بابے نبود یارب ایں چھر خلافت را چڑھا شناختہ

اور ارشاد ہوئے کہ اسکا جواب اپے کے لکھو اکر لاؤ۔ میں نے حصن کیا کہ تجھے سلام ہونا چاہیے کہ یہ شہر کس کا ہے اور اس پر خوبی
لحاٹ سے کیا اعراض ہاید ہوتا ہے۔ یہ رے خیال ہیں تو اسیں تہجی لحاٹ سے کوئی سر قابلٰ عرض نظر نہیں آتا۔ یہ محسن ایک شاہزاد
تجھیل ہے وہ شہر علم“ اور“ چھر خلافت“ کے ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے اگر یہ کہا جائے کہ شہر علم کا تو ایک ہی دروازہ تھا اس میں
چار دروازے کیے ہوئے تو ایک تکمیلی ہوئی بات تھی۔ حلم اور خلافت دو مختلف اور جداگانہ امور ہیں جو لوگی تھوڑا صاحب اور شاہزاد
و حضرت کے احصار پر تجھے ہیں قلعہ اسی دن لکھ کر دینا پڑا اس تو اسکے تین چار دروازے بعد تجھے سلام ہوا کہ یہ شہر کا رے تھا مگر کرم نہ تھا۔

در فضائے مکرمت چل پا خبر روح شرف
 در علو، مرتبت چل پا سماں چارا فتاب
 چوں هشید شد بنائے تصریح نیں چاپ کن
 لا ہر م قصر خلافت را عیال شد چاپ
 بکش اندر چار سوئے دین حق ثابت قدم
 تا رسنه فضل خدا از چار سو و ز چار باز
 از تو لائے دگر مردان حق گردان پر مجع
 بیلے تبراهم تو ان شد خاکپائے بو تراب

قطعہ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| اسے کو داری سمجھنے کو راستہ آبجیر | راہ النصاف گر راہ حمایت گرست |
| قوم آزاد عرب هست بی قیل | کر ذات گر و شرطیت دو گرست |
| جز بیعت ز رسی حق خلافت بکجے | از چھبیت گر و حق خلافت گرست |
| تظریم سلام پشاں شکار زبان بیدھا | بہر ابداع مکان فیکر و مادا در گست |
| کم چند از خرف قوت باز روی | چند سال امشکن بنیخلافت دو گست |

بقیہ حاجیہ صفویہ گرستہ - خیابانیا جگ پہاڑ کا ہے۔ چونکہ اس کی تعداد نقصیں اسی وقت لوگوں نے لیں
 اور ان کے پاس موجود ہیں اس لئے اس کی پیاس درج کرنے میں کوئی تباہت نہیں کبھی گئی اور نہ یہہ زمانہ اس مقام پر
 نہیں ہے کہ خلافت کے پرانے جھگڑے جس سے طہت ہسلام کو پہنچ کرچھ قصان بچھ چکا ہے از برثوز زدہ کئے جائیں
 آئے کا قطبوجی اسی ہاطبوع مسلمہ کی ایک کمزی ہے۔

قطعہ

بچیر فرقدم سرکنند رحیما خاں حوم (علیگ) وزیر اعظم
حکومتی پنجاب میجانیں بخوبی طلبیا بے قید یعنی علیگزادہ

۱۲۴۲

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| شادیم از لقا نے خرز زیکر کیوں زد | در بکر قوم و ملت فیں پیرا است |
| رکن کیسیں خبصونی رنگنا ما | چشم و پیغ دوہ خود فخر ما درست |
| چھاپ راستا یہ صدرا و تینا | اسلام و خاوم وادا برادر است |
| تاریکب بو مسلک اسلامیا پر بند | از شمع لئے اوست کجے ایں ہنور است |
| شاید رسد بابت تو خدا شند کام | اکنون کا خضری بست سکندر است |
| خاک کن ہمنا مان از پنچہ است | شیرزادہ تمام جہاں گرچہ بڑست |
| آسودہ بندگان خدا زیر سایش | او سایہ خدا و خدا بندہ پرست |

قطعہ

ماک پروردہ یک مادر و یک آخو شیم لازم آمد کہ پہم ہمچو برا و رہا شیم
خوش ہیں است کہ در کار گہ جسں علی در تہہ کار یہم ناصر و یا و رہا شیم

علی در گناہ علی یک گذہ ملے ملحت نظم و کن

| | |
|---|---|
| <p>شود جس دل زم پیش از ترکیب تا بدنداری آں زم نه مضر برآشیم</p> <p>پس نہ چوں شکرگزاریم وشن اگر باشیم چوں خدا خواست نہ بے خانه و بے درآشیم</p> <p>برندشیں بایشیوه چو خوگر باشیم در حق او و شه خویش دھاها بکنیم</p> <p>خطوئه یه تفصیل پخت بردا کو در سکان ہیان عظمت عظیم دارو بمقام حجه حرب مالشون ہجی اولی حرم اولی صاحب اعظم شاهزاده</p> <p>بزرگ سایہ آں رسید خلق خدا و رخت علم کو حید نوازنگ بخشت</p> <p>وزیر ہصف منفعت بیکانز دوں کو در کیاست دشواری نظر نداشت</p> <p>خیر کی تائید راے خیر اندریش در بیکه براے زین غرم در</p> <p>لشان خواجه رخته کو زیر آقتم پدید نور حقیقت تحملشیں پیدا شت</p> | <p>ایں همه طوہ کو بنی ز رسید الملاک است</p> <p>داد تو فیض حطاش پے ترین مکان</p> <p>شکر انعام بخوبیت فخرید انعام</p> <p>ناظر برسد قول از در داد برآشیم</p> |
|---|---|

سده شاهزاده ایں نواب مر حید الملاک نواب صاحب چهاری صد عظمت برکات عالی نے بارہ ہزار روپے
اویلہ بو ایر علیگلهه تیقم حید را باد کے کلب کو خرد فرج کرنے دیے تھے اسکے شکریا اور افتخار کلب کا جو بلہ بونا تھا اسیں یقظہ پڑا کہ

روال روشن پرها ز خامہ حجتی
درخت جلوه حق ۱۳۵۶
قطبه کے بجلبہ عشا رسیہ لانہ آپنے
قطبه کے عشا رسیہ لانہ آپنے

ساید امان مادر داشتم
یاد ایسا میکد و طعنی بسر

مادرے کر نینہ و بازوئے او
مادرے کر نینہ و بازوئے او

میں روح پرور داشتم
مادرے درخت آنکش او

هر بام پوں براور داشتم
از سر کی پیشہ سخوار دیم شیر

مغلس منعم برابر داشتم
از تسلیق وزیریا نا آشنا

وست کوتہ دل تو انگر داشتم
ایہ ما بود وقت یکدگر

ما بیک دلیں دو دلبر داشتم
شاہد بازیکھ و محشوی علم

نعرہ اللہ کبسر داشتم
ہم پے تحریم دیں شام و مح

طہر ز نو آئیں دیگر داشتم
ما علیکم از زادگان دصلوچنگ

ول ن آز یاراں کمدر داشتم
جنگ میکردیم یکن بعد

شکوه کم از چونخ و اختر داشتم
بے خبر از گردش لیسل و نہا

درخت نیں عشرت سرا بر داشتم
پھرہ ما چوں از این نعت کاند

در جمال زندگی از یاد دیم
در جمال زندگی از یاد دیم

زد و تاریخ آزادی گزشت

حمد را قی در نسم و شادی گزشت

قطعه در تحریف مانع تاریخ و قابو ای حجتی الدین بنی ریاض خبر میر کن
از خانم پیض شکر علیست زائر خان علیخان والی یا سکن و ام قبایل

پیخت همیں دال است عتماً "خواهر گے پایام حسناً بود
۱۳۴۱ + ۲۵ = ۱۳۶۶

نکر شرط است هر خور را گرچه طف سخن خدا و اد است

فکرت شد که آسمان پیش است قابل قدر و در خورد اد است

"دال" رازگاب تدخل و اول دال برانگاه موجود است اد است

از حریفان بزمگاه سخن ایں پیش تدخل کرا یاد است

از ملبدی و رغبت فکرش دل و جان خوار شاد است

از سخنها کے نفرزو پیش دوست شاد اعد پیش را د است

مکش نظم پارسی بد کن ز آبیارشیں پیرو آباد است

ورف نظم باقیں حجمی

شاه ما پا و شاه ایجاد است

قطعہ پرہیت تولد فرزند بخارا چینی امداد معاون کردا
وائی کنسیم صحیح گاہی دو ششم چونویں جانپڑاد او
شکفت کے پر پئے خلق زیوان صد شکر در مراد بخدا و
صانع بہار باز آراست سکنزار اعلیٰ په سرو شمشاد
نقش ازل بطف افزود بیعنی بحیرہ سرانے خواجہ
فرمانده ملک عقل و تپیر فرماده فرد و فرد
فرازند و فرخ و فرمند فیاض قطبین و فضل فراد
ایں نور نظر بر بارکت یاد اے مردم دیدہ فوت
تاجری و رشی فراید خوشید باد تیر و خورداد
کاخ تو بود مدام روشن از چہرہ دفسرو ز اولاد
محبت بہ در اینجست یاد دو لست پتزاد و خانہ آباد

١٣

شے ز پر کہیں سال عقل پر سیدم
و لفکر فروخت و پس ازاں فرمود
اگر وظیفہ کفایت کند، بقیہ عمر
دریں زمانہ رفیعے به از کتاب سکجا
اگر فهارت شر اسٹ شعر باید گفت
اگر وظیفہ کفایت نمی کند انگه
اگر چہ رزق مقدر بود دلے طلبش
پنکر رزق برخواجگان بہاید شد
اگر نہ خواجہ بہاید بروں زایو انش

پس از فراغ ز خدمت چکار باید کرد
از ایں دوکار بیکھے خش بیمار باید کرد
او افریضه پر و دگار باید کرد
بایں فیضی ز دنیا کنار باید کرد
و گرند کار دگر یادگار باید کرد
باها جد قدم استوار باید کرد
دیگر د و جد نہیں دیوار باید کرد
شار فرق طلب نگ عار باید کرد
تمام روز پدر انتظار باید کرد

عہ شاہ کی عالمگیر خوبی کے زمانہ میں سرکار انگریزی نے گرانی کو جہد سے وظیفہ پایا جس نہ سمجھ کر فوجوں میں بھی خداوند کا حکم دیا تھا۔ اسی بنا پر سسر کارہالی کے بھن نہزاد نلیفہ راپوں کی ایک جماعت درخواست لیکر دیوبھی پر حاضر ہوئی گر باریاں نہ ہو سکی اور نہ ان کی خواہ شرف فوجوں حاصل ہوا۔ اسی مادی میں یہ خلوک الحسابیات کا امور سردار اپنکوں ایکا قسطہ دیا تھا اس کا اندری حصہ کر دیا گیا۔

اگر براہ غلط پر سترے رو را زحال
 شکایت ستم روزگار باید کرو
 اگر چیز بٹاہ سر امید چیر و فتح
 مراد خویش گر آشکار باید کرو
 اگر جواب رسید نیت کار در خور تو
 قول خواجه ترا احتجاب باید کرو
 اگر زنست ایں خواجگان شی مجموع
 زهرت شہ دیں انتصار باید کرو

قطعہ

واعظ و شاعر

واعظ و شاعر انداز یک عین
 ہر دو خوش فکر ہر دو خوش گفتار
 ہر دو قلن خویشن چاپ
 ہر دو در کار خویشن طرز
 ہر دو ادعائے حق گولی
 یک بیپندار خویشن زاہد
 یک بیقدر خویشن سخا
 ہر دو عاری ازیں صفت کئی کند
 ہر دو ادعائے ہوزن
 دیں و دش بمرد ناہمود

ہر دواز بہر کید گز اجع
غافل زای سخن کی بعدی گفت

قطعہ

خان فی تربت شہبی الدین رستی مجمع کمالات است

در کتابت و در بدایت شعر مثل وہ تاش از محالات است

حسن خط و رواني قلمش نیست گر صحیحه کلامات است

ہر چہار میکند و متحریر پیغمیں وال رخق عاد است

آنکہ قرآن نوشت سی دو بآ در جهال آیتے زایات است

خانہ اش نزدہ کرد خاچورا درخش خواجه در مناجات است

سے خاچور کر لالی فارسی کے ان تخلیص ہیں جس کے ملزماں ہا مانند شیرازی سا انس تادیخ پنے نئے بحث فخر بخت کا ہے ایک ارشاد ہے
استاد غزل محدث پیغمبر اما دار و مکن حافظ طرس در سخن خاچورا

ان کا لکھیات کیا ہے مجھے اکی دست کے پاس سے مل ایسا تھا میں نے زبانِ کرم الدنجوں روح مکو کھایا اور سیل مکہ
عنی کیا کہ اگر اس کی نقل ہو بلائے تو بڑی بنت ہے۔ بخوبی نے فرمایا کہ اس میدان کے ٹپے مردیوں یعنی جھوٹی بھائی بھیتیں خان
یں اگر وہ ولی پڑھیں تو ان کے نزدیک اٹھ زندگیت کہ ایک جنیے نیقل کرو دیں کیونکی ٹبی بات نہیں ہے۔ وہ ۳۴ قران

او نہ تھا کہ ہر بار اور در خود عظمت و میہاٹ ہے

اکرم النبی اسی الاشان ہمہ طرف و کرم مدار است

خان نادر سخن و حسید الدین اہل فن صاحب مقامات است

عرض ایں وو مال ز عهد قیم مرصد فیض و باب حسنات است

شد و گر زنگ ہمیکدہ و نماز دے دیریں کو روح راحا است

لیکن آں باد و شبینہ مہنوز جا بجا تذشیں کامات است

ہرچہ ایں سایا وہن کھلمن از ہمال کاس فیض رشحات است

نیست بجے ریا گفتہ او جموی خستہ از خرابات است

قطعہ کہ بد صورہ کاراچہ شن پر شا و بکلیہ باشی لامہ امام فرشاد وہ شد

الا اسے وزیر جبستہ خدمائی کروشون ضمیری روشن و افی

بیوی حاشیہ صفحہ گز شدہ نقل کر جائیں۔ چنانچہ کلمیات ایک خدمت ہیں پڑی ہوا اور انہوں نے صرف ایک ہفتہ میں غریب کے دوسوچھے نقل کر دیے۔ جسے میں نے کرامت سے تحریر کیا ہے۔ شرحی اسی محبت اور روانی سے کہتے ہیں۔ یعنی اس کی وجہ سے قدر ایں مطم خصل رہا ہے اور اسی کی طرف قطعہ کے ایجزے میں اشارہ ہے۔ انہوں ہے کہ زبان اکرم ایسا ہے کہ جو اس خاندان میں ایک عمتاز شخصیت رکھتے تھے جائیں اتنا ہو گی۔ میرے ولی وہی اور عزت کے راست پر چل یعنی اس کا عزم ہے

| | |
|------------------------------------|--|
| سرخ زرد و هم چشم خونناپافش | بگویند حالم بـنگیں بیان |
| پریشان خیلی دشمنت جانی | گواه اند بر درد نکلے نہانی |
| پریشان دامن رفت کر سلس | شکسته دلم از غم و دان |
| پریصلی محنت هم رفت و آخر | پشیانم از محنت رایگانی |
| زف کر عیال هم زخوت تالم | ولم ببر سرمانی رختم رعضاً نی |
| پرمه بچکان خود را زدست رفتة | سرد شده عمر عیسیٰ نی جوانی |
| چوبے ساز و سامانی آل بهبیشم | بچشم نماید چهال قیروانی |
| زفر ط ملالت ز جوش نه است | شو دونگ بمن فضائے چهانی |
| امیرا، سرگرم است ترا، دست گیرا | کرم کن که تو یا و رسکیانی |
| نه زیبد سابل پـتصاف دادن | نـشاید تا مل نـصفت رسانی |
| پـکیـگـرـدـشـنـ خـامـکـنـ فـراـمـ | تجھی کرمی بـجـتـیـ جـوـانـیـ |
| زـداـورـخـوـاـهمـ تـراـنـجـتـ دـوـ | راـیـزـدـبـجـوـیـمـ تـراـزـنـدـگـانـیـ |

لبقیہ حاشیہ صفحہ گزنشتہ - چونکہ دو اور دویں ہے اسکے پہاں نقل یکیا جاسکا۔

مراٹ

تغزیت نامہ کے پسر جو اکاچش پر شادی کی طبقہ بیکیوں باشی فرشاد شد
 اے مرگ گرفتم کہ تو قدر می قضاں بے ہبہ مگر ستمگدی حادثہ زائی
 ناکر دہ یکے چور پن کر دگر می گرم ناکر دجف استعد مازہ جھانی
 بہ ہجر دو یاران موافق نخوری عمم بہ ہجر دو یاران موافق نخوری عمم
 خوف تو پر آنکندہ شہماں را زیر بخت زور تو بر آنکندہ کیاں از کیانی
 از دهم توبت نہ خواں غلخواں وز خام تو رسیدہ نہ بڑاں دخانی
 پیش تو بر آنکندہ حکیماں رسمواں پیش تو بر آنکندہ حکیماں رسمواں
 ایں جملہ کلم مگر امروز زبورت ہر سب ہنگامت و ہمہ شہر بکانی
 دانی کر چکر دی بدل شاد کا دل آئینہ دھو ملت بہ ترمی وصفانی

مسہ سر ہمارا جو کشن پر شاد کی ایک بیٹی کا تغزیت نامہ ہے جن کی شادی کا تاریخ سالان چیتا ہو چکا تھا۔
 شادی کی تینی بھی قسم اپنی تھی کہ دعویٰ دہ جا رہ کر اتفاقی لگ گئی۔

در شوق تماشائے جمال تو جگر خوں وز در دمجم اجر تو رخ کاہ رہ بائی
لے طلب اُر قدی کہ ترا گفت کہ تنہا در شوق تماشائے جمال بال کشائی
اے پردہ نیں ایسی پڑنا نام که دریا آں کیست کہ کردہ است ترا راه نامی
بنخواست پدر تاکہ بـ تحریب عروی خسار تو گلگوں کند و دست حنای
از لعل کند یارہ ز فیر و زه گلوبند سرچ پر صن کن د و طوق طلائی
با گوہر غلطان بـ دست بـ عسل خشی یا ممحم پیپی دہت شکختائی
تو سوئے عدم رفتی دیں برگ عروی چول برگ خداوند پیدا گشت هر بائی
آیا بود از شرم هروی کہ تو بکسر در گوش شعنی دو گر روند نمائی
بر خیر از ایں بازے طفلا ز کہ تا چند رنج پر د کا دش ما در فیض زالی
و بـ بـ جر تو پیدا ہمہ آثار قیامت وقت کہ بـ جیز زی در اجنب آئی
تا اشک عـ نـ سـ از دـ دـ ہـ بـ بـ بـ نـ پـ اـ کـ کـ اـ زـ گـ عـ نـ سـ اـ زـ بـ نـ نـ پـ اـ کـ
در بـ اـ دـ بـ اـ سـ اـ مـ عـ خـ شـ اـ لـ حـ اـ کـ اـ نـ شـ عـ نـ بر خیر کـ تو در خور باعی و سـ رـ اـ

ایامِ شاطِ اسٹ جہاں پر زمانت است ۲۵ اسے پیشہ چہاں میں دل زندہ کی جائی
نے فوقِ نشا طا است نہ لذت بہ تماش

ہر چند تو اے خواجہ بیلیم نزیبی ہر چند تو اے میر بہ اندر زندگانی
کیک کھستہ کنم عرض کہ آن بخت پتا ثیر شاید کہ کند منع غشم از در و فرانی
نیج از پے مرد آمد و راحت پے نامرو رو باہ رہا، مشیر بہ زنجیر گزانی
بیر پاے ہر سند زمانہ بہ ہند بند آزاد از غن، باز پے سلسہ پائی
شادو پے راحت ہاماں پے عشرت ایوب و نو تلمذی و یعقوب و چدانی
پا غشم مرد است بہ اندازہ ہمت بنگر حسین و بغشم لا قنہ ہی
راضی برضا باش کہ مردان طلاقیت جز خیر نہ بیند در احکام الہی
مردان خرد شند ز ناکا مردانی شیار نہ ہر سند ز ما یوئی حرما
دو شوار بود کار چو خواہی ہمسہ دنخواہ آس ہمہ کار است چوراضی بخانی
خوش باش کہ از در و ندادند کے را پروانہ آزادی و تمغاۓ رہائی
ما از دل مسکینی تکنی در و گدانی اند صفت خاصان خدا جائے نیا بی
ہر چند تو شایستہ ہر مدح و مثائب تو پادکش در و بی و صفت تو ہمیں بی

زد است که از مطلع اقبال برآید کیک نخست رخشان امیر الامرا

زال بعد به تائید خدارام تو باشد

عیش و طرب ناز و محکما مر والی

نوح پیاد فرزند بیل محمد که بتلخ ۲۹ مطابق

که از پیل ۱۴۰۷ پیاره سرچشید و دل عوقت بجا ما در پیده شد

فصل گل در جهنم پیدا برفت مازده و ترکله دید و برفت

غزچه کیک نفس شکفت شجید گلعنی کیزان مال حبید و برفت

طوطی قصه های خواندن پیدا برفت

نه سواری لصحن ماینے ماخت باخت دو پیدا برفت

میهمانی دوسال میچندیں ماه نمک از خواں پاچیده برفت

پسر بیل محمد نام چهار زد و ده مال پیدا برفت

طفل نادان مگو کرد آنابود کلفت این جهان بدید و برفت

بجهانے و گر کر بس نخ است

فارغ از حیث شش و پنج است

۲۱

حال زیں سانحو دگر گوں شد
 تا بانے تن برفت و صبر ازول
 شیر آب شکست عهد شباب
 اے فلک مرد فی نبو و محبیل
 بر رخ او ز دند عازه خاک
 بر قدا و بد و خست تند کفن
 بر دہاش ز دند هر سکوت
 او ش را گفت سکو کردند
 بعد ازاں ستر در گلو کردند

۲۲

پا تشن راست چہرہ ریگین بود
 سخن شہ پھوششہ شیریں بود
 محل لشکریں تو شیریں بود
 مایر صدر شرزا ریکیں بود
 بعد مردن عذر زیر گردید

چشم شد خلوفا چولخ شد
 احمدال از مرانج بیرون شد
 پشت خمگشت سنجش اثر شد
 بیگان مرد آه ایں چو شد
 چول خرس تانباک و گلکو شد
 چوں قدش لفربی بو زو شد
 چوں دهان گنج لفظ و ضمیں شد

بہر دید بہار سکھن دہرے چشم گل اند کلشن لیو د

اے گل نو بہار نا دیده

بلبل شاخار نا دیده

ذکر مرگ تج جا بجاست ہنوز^(۴) دہرا زنا مت کاشاست ہنوز

شیوں مام و گریہ بابا چشم ہجر تو گواست ہنوز

تاج بھی تو میکن دل خل یاد تج جانخواست ہنوز

چشم را تاست تائینم دل بہر تو مبتلاست ہنوز

ان پے ختلانج قل خیں بوے پیر ہنست دوست ہنوز

تو بصدیش خفته در صحراء شیون دشور در سر است ہنوز

خواہ را نظر کے جی آئی کار گر عشوہ دوست ہنوز

مشکلش گرچہ مرگ آسک کرد

خاطر رحمج ما پر پیش کرد

سہ بیہ سری آخری اولاد تھی۔ سہ ایکی بنیں جو بوقت کم عمر تھیں پھپتی تھیں کجبیل کہا گیا تو انکو گھر کی خور میں کہدیتی تھیں کہ واکیٹے باہر بیج دیا گیا ہے۔ بیہ بخاریں مدتوں اسکا انتظار کرتی رہیں۔

مرقدا در آپود رکن گرفت ^(۵) جانش آسود و دل قرار گرفت

سرقه کان سینه میکست برفت تپک پر پوخت نن کن اگرفت

تشنگی و گشت و سنج تام طول آزار خص اگرفت

الغرض طفل را بد من امن دایی فضل کرد و شکار گرفت

خود محظا کرد و خود بی خوارد پنهانی او و آشکار گرفت

چشمکایت ز صاحب مالت بازگر مال مستعار گرفت

شکوه نخلبند ناز پیا ^{با} شمرے گرز ش خار گرفت

شکوه او اگر جبا ن بود

ناله از در در نار و انه بود

بر دلم خشم بی نشان زده اند ^(۶) مگر از تیر بر بے کسان زده اند
کشتند آنرا ز دنور در د و محن نے ز تیغ شم ز از سان زده اند
تازه نالم ز در و ز خشم حبگر پنجه خبط بر دهان زده اند
تازه نہ بینند حالت ز ارم پر ده برجش شم مرد مال زده اند
ز سد تا بچرخ فخر یادم قتل بر باس آسمان زده اند

نقش بندان سالم باشد: گونه گوئ نقش در جهان زده اند

نقش ناقص اگر نبگذراند

نقش بیشتر چرا نبگذارند

زوری قال و قل باید کرد ^(۱) شکر بجلیل باید کرد

شکر او و اجب است در رخا بیرکشیده قلیل باید کرد

سوئی صحراء خانه باید شد تو مچول بزمیل باید کرد

ابی از خانه عذر جل بیر جمیر بیل باید کرد

گریز بر حال خوش اولی تر دیده رار و دنیل باید کرد

فرکر زاده بیل باید کرد راه دور و دراز در پیش ا

دوستان و داع باید کرد از عذر زیان حمل باید کرد

کار وال مستعد پی سفر است

هر چه اندر جهانست و رگز رست

مرثیہ سر جہار اچھشن پر شاد مکنیہ باشی باق صد خلجم بجھو
بنداؤں

بیک گردش ت و بالا جہاںست زمیں گردندہ تراز آسمانست
بہر خانہ است بر پا شور ماتھم۔ بہر جاز و مرگ ناگہاںست
ندور امن است زو در دشیں سکیں نہ ازوے پے خط رشاہ شہاںست
برابر سیکنڈ شاہ و گدا را بیک پیش قوی و ناتوانست
چہ جوئی راز مرگ و زندگانی کہ آس بالا تراز و ہسم و گانست
راز ارش دل نما دل چہ نالی کر آں حسکم خدائے انس جانست
بحکم او سر طاعت نہادن و جوب عام و فرض خاص گانست
نہ ایں دنیا است منزل گاہ صود نہ ایں جائے قیام جاو و انت
چواز خاکست باید خاک گشتن هر انسان را کہ در ایں خاکدانت
گو ایں مرد کافر آں مسلمان کہ ایں علم خدائے غیب و انت
در دیر و کلیں و حدم را چونیکو بنگری یک آتناست
چہ جائے مرزاں گر آشناۓ نو خوانست بہر آشناۓ نو خوانست

چه گویم با تو ول آزاری هجیر ۱۳ کشید کوتاه دراز این استانست
مشهود نکر که قول معاویت
که بعد ایں جهان هم یک جهانست

پندرہو

چهاراچہ چو حسرم سجن کر
بیسے رخبارہ گلگلوں و شاداب
مژہ در پیش نوک خیز شد
علام اندر سفر کیپ کا روان قشت
بریشہ در حضر باد و ستار بود
زفطرة مایل بذل و سخا بود
چو سرست تصوف بو شبهها
پہارے بو زخم اهل فن را
تہراں تو نہ لان وکن را
پہر لک ارت شو رنو حادو
موحد بود از نزد ای محجوب

چو در دل دهشت و ز جست را داشت دعا کے نجاشی او حی تو ای کرو
 دعا کے ستمندان ستحیاب است
 نزول رحمت حق حبیب است

پندرہ سوم

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| چه می پرسی چهار آجہ چھادا شت | نشان مجد و آثار عسلا داشت |
| بچاں ہم در و ہر کیک آشنا بود | چو در پھلو دل در د آشنا داشت |
| خطایش پرده پوش ہر خطاب بود | پے ہر یک خط اچنڈیں عطا داشت |
| بایں دریا دلی بدل و سخا دت | ز دست کوتہ خود ناہی داشت |
| نمی دادا ر لبقد رحمت خود | ز روئے سایں مسکین چیاداشت |
| خن را سر پست قدر داں بود | لگاہ نکتہ ہیں اف کر رسا داشت |
| فداے ظلم و شیداء ہنس ربو | نداق شورا ز جهد صبا داشت |
| اگرا ذ دل ن در بند خدا بود | چ سال الغت بردا ان خدا داشت |
| ب شکر نعمت الطاف شاہی | زبان و قن و طائے پاؤ شاداشت |
| بے چوں محومی آثافت خاطر | ہوا خواہ و محب بے ریا داشت |

پر رائے دعائے مستند اں بہ مشکل پئے رو بلا داشت
 و لے درجنگ مرگ و زندگانی نہ حرز امن از قیصر قضا داشت
 زینکی در جہاں نام نشان فلت پس از مردن حیات جاو دیافت
 بیٹھد جہاں م

بہ هر پر میسکه ممتاز و متین بود ہمارا جو دراں کسی نہیں بود
 شناۓ مصطفیٰ مسد خدا کرد گمام تم ایکھے از اہل قیس بود
 پڑائیں قدیم شہ پرستی۔ بعد مزم رانخ و رائے زریں بود
 ہروت بود گر شخص محجم یہیں اسلطنت و سلطنت بھیں بود
 دل بیمار زومی یافت تکیں بگفتار شش شفافے انجیں بود
 بہمانداری و بیکیں نوازی امیر یے مثال و مقیریں بود
 قول و عوشن از هسر که ومه سزاوار و ہمدردار اس آفریں بود
 خوشی سرگرانی ، کجھ ادا فی۔ چو خوبیں ہرا دلیں لنشیں بود
 بد و نکیش چو بغلت است روشن چو گویم ال چنان و ایں حنپیں بود

بقول شہباز اولیس را یکے از جہرہ نائے آشیں پو و
 ز تہندی بے ک در جاں کند نیہ است دم آخہ نگاہ دا پیں بود
 ز میں سخواست گیرد در کنارش فک در فک غسل هاشیں بود
 ز میں مغلوب گشت و حرف غالب چورتہ از زمیں پسر خ بریں بود
 ز سخشن شہما نے شاہ پندہ پرو امارت بو دخاتم او لیجیں بود
 پے ہربادہ کش تا بود ساقی شراب خوشلی در سائیجیں بود

نہ آں بادہ است در ساعنہ نیست

اگر باقیت ذکر خیہ بہت

مرثیہ نزدیک یہم فاطمہ حرثہ عزیزی مجھی مع لوہی ناظم حض

وہیل ہافی کورٹ

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| گلے ز گلشن مارقت گلشن اپڑ شد | بہار گلین ما پا خزاں برادر شد |
| گل شکفت بحد رنگ بوز جو رنگ | بساں برگ خزاں دیده خنک و اصفر شد |
| بیک ہوا چین و دماں فگر گول شد | نیسم مازمیان فت وقت صرصرد شد |
| شند طرفہ صفیرے زع الم با لا | بجے سدرہ روائی گر غ دست پور شد |

کے کے مایہ صہر و سکون نادر بُو
 برفت و داع دل پتیرار نادر شد
 دف انحراف باعمر بیونا انجنا
 برائے داد سوئے پارگاہ دا در شد
 بخوبیش بر جنپیں عطر اشک ایں غرا
 کہ خاک زیر زمین بر سر محضر شد
 برائے عفوگا ہاں اسید کاراں
 کفیل اجر و شفاقت بر و ز محشر شد
 نشت نقش جوان گوش چاہول
 کہ سال آئی رہ جنت گفت از بر شد

۱۳۵۸ھ

زمبیوائی حجومی کنوں چہ حی پسی
کہ بیویا بد و زیں ورد بیویا تر شد

لوحدہ بیا و محب لی میرزا نذری بیگ (علیگ) الہی طلب

پندزیر جنگ مرجم

فلطاں خود م اگر اے نذری جنگ ترا
 جہاں ہر وونا جانی و سان گفتتم
 زکار ہائے فتوت کو کروہ بجہاں
 شکخت نیست گرت طاتم زماں گفتتم
 بیاد و سوت خوان کرم کستہ زمی
 بے حکایت جہاں و میرزا لغتتم

سے جن لوگوں نے مرجم کا بھپن اور جوانی دھی تھی وہی ان کی حسن ہوت اور حسن سیرت کیا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مرجم علاوہ ان خدا و ادھار کے جدید فیض درستادہ لائق ہے تھے جلیل گدھ کے طبلاء کے ساتھ انکو فخر ہموںی محبت تھی۔ اکثر ان میں سے ہر قوں کی تکمیل ہاں رہے۔ تمام ہر وان کمیلوں میں ان کو کامی و مستحکما تھی اور فخر ہموںی خود سے تو ہی ان اور قوی دل تھے۔

بذر حسن دل آویز خلیق دکھن تو چو قصہ اندیساں نکتہ وال گفتہ
 غبار خاک پوپو شید روئے وشن تو کجاست ہر دخشاں اسماں گفتہ
 چور دوار گزشتی زرز مگاہ جہاں گراں رکاب و سوار سبک عناں گفتہ
 توی عزیزم و بالا بلند و شیر شکا چپ سان شکار تو شد مرگ ایں جوں گفتہ
 چو کار وال جنوب خیمه ز دیصر و لم بیمار یوسف مارا بکار وال گفتہ
 شکستہ او دیصد رنگ بو شکلے پین کجاست دال گھل رخنا بگھٹاں گفتہ
 زمال ہجر چو یاراں زم پر سیدنہ "نذرِ خنگ" ہاپاں جناں مکاں گفتہ
۱۳۶۰

نوحہ بر مرگ رحیم عقوب (علیگ) مرحوم کر کر کر من کرن امین
 طلباء سے قدیم علیکم لذت و بیکے از عذایت فیلان نہ خلص لو و
"اشک غم"
۱۳۶۱

کرام پشم کرام مرگ او پر آب نشد کو اموں کو زخمیں پیچ دتا بنشد

بقیہ حاشیہ گزشتہ۔ ان کی ہوت مادر در مگاہ کا ایک مقابل تلقی نقصان تھا۔

کدام جلیئے کلھیو ب ماچو یوف هصر پہنچم آمد و نکور شیخ و شابا شد
زکار دانی ایں ہر دھنی گزار مپرس ۶ کدام کار کار او کرد و کامیاب نشد
چنان برفت کر دور از ره صواب نشد رہ فلیخہ و نیاد دیں و ملت و ناک
زندگا و حواوٹ آب و تاب نشد دیندہ بو گل نودیں چین لکن
ہزار چوہر تا بال نہماں بذاش بود ہزار چوہر تا بال نہماں بذاش بود
ہنو ز چہرہ زیبائے اوست پیش نظر جواب جبت نیارا ف در حجاب نشد
و عائے مخفت او چپ سال کنهم باور کدام قطرہ باراں ز فسیض ابر کرم
کدام خانہ ک معمور شد خراب نشد کدام کس ک در آمد دریں چھائی نزفت
روانہ تا سوئے یہم کشتی جباب نشد ز یاقوت و سحت فریانہ منزل تقصود
کدام کالبد آب و خاک و ر عالم ک ز دشمن ده نفس باز خاک و آب نشد
تاماں غلظہ مرگ و زیست جہر و کوں بکار بر دم و لکیں انطراب نشد
ولیکستہ و ایں چشم خون غشاں صحی
بضاعت کر حمل ز اعتاب نشد

تاریخ وغیرہ

تاریخ وفات عذری قطب الدین (قطب بارگا)

قطب مادر دنیا شوعل زنالدنون "کار وال فت ہمہ بانگ و احمد آید"

۱۴۳۰ھ

خدار حمت کنت دای خانماں بر هم زان مارا
کر بے تک و توں گذاشت ہم جا ہم تن مارا
باں آساتی وزو دی نہ باور داشتم حموی
که از پا افگن دشیر خدا شیر افگن مارا

تاریخ وفات الده رسیده بیچی (محمدی سکم صفا) بو ریگ کا پشم

(۱۴ جنوری ۱۳۹۲ھ مطابق ۶ ابرil ۱۹۷۳ء روزہ وقت)

بساطیش نگندی بپکیے گا جاں شدی پہل د مشکل گز اشتنی مارا

"توکے سافروں شاد ماں چہ میدانی" پیدا دل عزلت نشیں رسیدارا"

۱۴۳۵ھ

تاریخ وفات
عذری حاجی محمد رحیم حسین صاحب مقام فاضمی پیغمبر

۱۹۲۳ء

۲۳۰ - رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

زمرگ جان برا اور رفیع پاک گھر زخون دیده کدام استیں نہ ترگردید
پرانے سال وفات شیخ آہ "محبی" "غیر بود ز مردن عزیز ترگردید"
۱۴۳۵ + ۹ - ۱۴۳۶

تاریخ وفات محبی داکٹر خواجہ مسین الدین بانی کارخانہ

پارچہ بانی در مدینہ منورہ

حیفہ مردی و در تحریکیں بزر یادگار حجت مشیں بمرد
در مدینہ نو صد خوال ہر مردوں خادم ولسویں شاہ دیں بزر

ماجی روایتی رسم مولیٰ حاجی صناعی دنگیں بمرد

موجہب آسائش راحت فت باعث بہبودی دیکیں بمرد

شاطر حق باز رامات و فتاو قائم خیرات رافزیں بزر

از سرحدت بخواں سال وفا داکٹر خواجہ مسین الدین بمرد
(۴) ۱۴۳۶ + ۹ - ۱۴۳۷

قطعہ میاں کی وفات جواد جاہ پرکے از فرزندان علیحضرت بندگان علی خان دام اقبال
کے در عین طفولی فوت شد

ز بھر جگ پارہ جواد جاہ دل بیک جہاں گشت از غسم تباہ
بچشم بدل اے دل ناتواں شوراں مراثا نہ شور د جہاں

چ شورم کر پاک آدو پاک رفت "ز دیند ار طبلے ک درخاک فت"
۱۴۳۵ + ۱ = ۱۴۳۶

پے سال رصعہاے اخیر کیک فسرا باول ز آخر گیر
قطعہ میاں کی وفات والد ماحد علیحضرت بندگان علی نواب میر جہاں علی خان دام اقبال

ز تک نعمت دنیا پر خسم ہا در شاہ کے بہزاد جہاں راح در دوح و بیانت

"دیخپ" ز بدلے بچپن کی خستہ بیان "د کنیز ناطقہ و ام شاہ جہاںست"
۱۴۴۰ - ۱۴۳۷

میاں کی وفات میر شاہ سیلماں حوم امیر حاب علیہ السلام و نجح قدر ل کور ط

منظر ب قلب ہر ملائست ماتم مرگ سے سیلماںست

میاں کی وفات میر شاہ سیلماں حوم کی وفات کی نہایت عمدہ تائیخ "بر بودہ" یہ زمین تخت سیلماںی اور فرمائی تھی جو
حوالہ انجمن نظاہی نے اپنے پرچہ منادی ہی شایع کر کے استعمال کی تھی کہ لوگ اپنے سر و لکھ کارروائی کرنے کو وہ شکر گز کیجئے تھے
۱۴۳۹

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| بودیکے درمذقوم نہ ماند | یارب ایں رواچہ رہا نت |
| خادم عالم بود جو سن لک | فرض برہر دو شکر احانت |
| شرع قانون ہند سہ ہریت | ہر کیک رفت اونھی صانت |
| آئیے بود در ہند دا انی | گریہ بر خواجه ہمہ دانست |
| لشور عدل را میں ماں بود | تخت ایں لک بے سیما اسٹ |
| بیت بالاز مصعرہ ثانی | محیر فوت شاہ ذیشانست |
| یافت نام بخو کو در عالم | صلیل زندگی انسان است |
| یافت مدفن بسیں کہ براں | ابر جست مدام بار است |
| غم مخوب بر جا سہ جھوی | مال خود را خدا نگہبانست |

لبقیہ حاشیہ تھے گز مشترکہ۔ سادی جی درج کئے جائیں گے جہاں تک جیسے مسلم ہے کہیں سے محرع نہیں آئے بیٹھ جائے
بہم پہنچائے تھے۔

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| جیف بر فوت سیماں ہمہ افی او | بود عالم کس سہر نے ٹافی او |
| باو کاں بود لپڑاں چو گشتہ ازاو | بر بودہ بزم تخت سیماں افی او |
| سال فوت است زانکار جھینا دکن | پا دیارب بیجاں ور جو نیا دی او |

تاریخ انتقال محبی بہرائی یا رجیگ کے حکم

برائی مادرفت از زم اجہا۔ روشن در خان آباد باودا

بھنگتم سال فوت از رُکے اخلاص
ز نہ تھا اے جنت شاد باودا
۱۳۵۹ + ۱ = ۱۳۶۰

تاریخ وفات محبی انتقال یا رجیگ عیناںی مرحوم

رفت از دنیا الطیف احمد کرد پو مصدر لطف کرم نے رویدنگ

ہست ایں کتابہ ہم سال تسع "مرقد عالی انتقال یا رجیگ"
۱۴ م ۱۳۶۰

تاریخ وفات ایں ڈی جدی

پود برقیت حیدری سکم ہر باب تر زمام بر او لا و

بہر سال وفات حجتی گفت "ما در خلق مردن کیک نہاد"
۱۳۵۹ مر

تاریخ بنائے سمجھی جو دی در کوٹھی رہی مولانا

شد زجو حضرت عثمان علی شاہ کن مسجد جو دی بناد قبہ مسجد مسحیے دل

ہست تاریخ بنائے ایں مقام دلکش خوا بگاہ شاہزادہ مسجد و گاہ مسجد زبال
۱۳۵۹ مر

تاریخ افتتاح آرت کالج جامعہ ختمانیہ زادت ملکہ
شیر

شاہ آگاہ از حق ایق علم بیکفایت د صد شصت ایق علم

گشت تاریخ ایں بہارک چن افتتاح در حد ایق علم
۱۳۵۸

تاریخ وفات سرطربیدی (حیدر نواز چنگ) اموم سابق صد عظیم بب جوہت

طفیل خدیو دکن حیدری بے یافت سعدی بے پرتری

بے دید انجاشیب فراز بے کھتری بے جہری

پرانشوری د لفسر زانجی مسلم شد آخر پادشاهی

بعالم ہمہ عہد ہار افتتاح چ عہد جہانگیری و اکبری

پودور عروج پس پایاریہ طلب کرو دا درپے د اوری

بنصر جو د ہاتھ پئے سال تو بچشم ز راہ کرم گستاخی

بیک جنیش سکن آسمان

ز حیدر بجا ماند و ز حیدری
۱۳۶۰

“تاریخ وفات محبی میر عاشق علی صاحبی سابق ہم کو تو ای احمد

سر کار عالی

افوس میر عاشق علی فخر دو دن از دو دن برد و پس سے جان برفت

روز چہارشنبه ز شبیاں چہارونہ بیکھام عصر بود کہ اس پاک جان برفت

ہفتاد و شش نمازیں تیرہ خالدہ مردانہ طے نمودہ بصد عزم شان بفت

پسندگر نماں فاش یہ زمانیاں محبی بگو کہ ماشق علی از جہاں بہ

تاریخ انتقال خلیل الدین احمد فرمادی فرضی قاضی و نقی علی صاحب چھوٹی حوم

شیخ زہیر الدین احمد چول از عالم روا گشت خوش پدر از مرگ اور نوجوان

محبی خاطر حنیف نوشت یہ عصیوی بے تعلی از خلیل الدین فردوس آشیان

تاریخ وفات شاہ حامد علی مخدومی عصیوی

بر و حامد علی چوتھے جان بر و بارگاہ لم یہ لی

گفت وح الائیت روزی باد ”تاج جنت شاہ حامد علی“

تاریخ وفات تا جانشنا بیکری زوج محمد عبید اسلام صفا حقانی که بعد از حضور از دنیا
آتی سال کرد

لیار سے صبح آمد و مہنگام شام فوت لیکن نہ بتوئے پیری شو او شام فوت
محبوبی شنبہ سال سیجمیں ہاتھے تا جانشنا بیکری زوج محمد عبید اسلام فوت
تاریخ وفات محترمہ عجم زاد بیندہ رقیبہ بیکری زوج امیمہ در حرم مولوی محمد عجم و علی صفا خواهر
(مرقد رقیبہ بیکری زوج امیمہ اور رحمت اور گاہ الہی) ۱۹۲۵ء

فضل از خدا شفاقت فضل از عجیب وزیر اعظم رقیبہ قریب باد

محبوبی بالتماس و مصالحت اد "گفتہ کہ اصل راحت جنت نصیب باد" ۱۳۴۲ء

تاریخ وفات برادر مولوی جسیکریم علی محمد صفار حرم
"مزار مولوی جسیکریم علی محمد دینیع"

پنا کچاست کے راویں مقام فنا بتعاست بہر خدا و خداست بہر قبا
یحکم حاذق اوانا عسلی محمد بود جہاں فضل و کرم آسمان چہرہ و فنا
چو او بر خفت تو گوئی بر قت عیش و نشاٹ چو او بہر تو گوئی بہر مجده و علا

بچیش بجهه ز شب ای نهم بوقت غروب ز پشم کشته نهان آفتاب و ده ما
بگوش من خفر اللہ گفت وح القده بحسن خاتمه او ز عالم بالا

برای سال یسیحی الف بکش محوی ز قول خویش که گل شد چراغ صدق و صفا

۱۴۰۹-۱۲۹۴

تاریخ وفات حججی میرزا شایق حسین حال انصاری خیر خوب ماین کاردا

نواب کاظم حسین خاچ صاص جوم

میرزا شایق حسین خاچ سپهر سفر آخرت گزید و برفت

گفت کاظم را در تاریخ بلیم کیف کشید و بث

تاریخ وفات مولانا مولی احمدی حنفی حنام حرم بیرونی میرزا شیعی رزیز ڈولی

والد بزرگوار من مجلف

ز حرم دو منزل نه طلے شد که ناگ پدر بیسم رازمانه سرا آمد

چنان رفت خارغ ز او کار عالم که تاریخیں از لفظ "خارج" برآمد

۱۲۹۱

دل ساده من زور و تسبیحی بشد خوب و بیرون ز پشم ترا آمد

لایخ وفات لطف العزاب کم ازیز نواب (نقید مدنی مدیر جنگ)

"طف العزاب رو دهاب رسماً و فاد"

- ۱۳۵۶

یعنی که دولت شوره بر نجح و هم او فتاد

برهم ۱۲۱۷

زین بیت سال هجری خصلی بخواهد پشم

هر چند آں ز خصه غسم پنجم او فقاد

کتابه تایخ وفات فاطمه سیکم دختر کعبان الحمد حرم و امیه بیوی اکرامی

(نواب حامدیار جنگ پهاودر)

خشندر حمزه حامدی خفتہ دریں جائے بصدراست

سال فاتح هم الہام غب فاطمه در بزم کی محنت است

- ۱۳۴۶

باوم لذات حمزه اگ مرگ پر غم و گاہ حست است

دار جہاں باہمیش و نگاہ منزل غم چائیکه ز محنت است

لایخ وفات جمیعیت پیغم و حرر قطبیه بخنگ بجهور

چشتکده قبر که جائے خوف است و رجا "آرام گ جمیعیت خاتون با او" - ۱۳۵۹

تاریخ وفات فخر خدم احمد سعید

سعید رفت جہاں شد گپتہم ناماریک "چراغ دودہ دل ہو گوارا گل شد"
بود مخفی کر سال فاتح کو ناگھماں ^{۱۹۷۵ء} دیکھ ہالت بخت داع خ سعید ہنال مکان

تاریخ وفات پنجم فاطمہ خضراء محجوبی لوی میرزا ختم علیہ السلام کو حمل میں سرکش
اخت جواں سالہ ناظمہ ملے چون سحبان غزل است اگز

محجوبی علیین پے سال وفات یافت زہافت رہ جنت کے فت ^{۱۳۵۸ء}

تاریخ طبع دیوان حنابیں الدوہ مرحوم والی پاٹیکاہ آسمان چاہی
سمی معسیں سخن

ایسر کن دلو از سخن عیاں کرد خسلی از سخن

نشید سخن تا بخود و رسید چوز دز خملکاش باز سخن

بصید نہ ربار میستی دید بدشت بیاں یکہ ماز سخن

ہمانے مظاہیں بدش فت چوکشاہ پرشاہ باز سخن

سخن را ز پی ببالا کشیدہ باورست ناز و نیماز سخن

بلطف بیانش فزوئی و ہاد زبان افسوسی کار ماز سخن

نگردد زست بلندش رہا گئے تاریخ دراز میں

پے سال چاپ سی جا سرو "میں سجن از سان" ۶۱۴۳ھ

میرخ و خاتم محمدی شاہ

"فاضل سپہاں تھائی آب"

"بیک خصلت پاک دنیا کی پسند و خواہ" ۱۳۹۰ھ

"دارثی درویش زینبی کے زمان" ۶۱۴۳ھ

۱۳۹۰ھ

مشفر قات

غزل

وصال یا طلب کرنے کا ذوب و رست برسی گواہ کلیمہ و تجملی طور است
کپشیں قاعدہ دانا عشقی سبستہ زبان سوال و عرض تنا خلاف دستور است
کشاد و بست جہالت و کف اتساد وجود آدم خاکی بیان مزد و رست
کشادہ اند برویت خرینہ و پھرال طلب زنگ عطا شیش بکچور است
پغیر سوز دل نسائی شود از ل شرب تازہ جوشی بکھور است
فداے طرف نکارے شوهم کے در ہمہ نکشت ورز دل گردہ از نظر دور است
پدر و حجیش با فن کر کہ پشو و نجور عطا اے حل گر کاں تر دلے محمور است
چه راز آب حیات آید از نحل پیا شفا کے ناس اگر در عباب نبوا

نوایے پند حریف ایں بیرون محراب اگر ز دل نہ برآید صدائے طبیعت
 پیام مرگ ساز بخلقی وار ورن نوید زندگی نو بحقیقت مصوات
 جهانست تندہ زاپ بین محنتیں زمانہ شکرگزارست وسیعی ملکور است
 بزور علم زمین نرم شد فلک نزدیک کنون کو کو کو زمین سخن ملک آسمان درست
 بگشت گرہول بردام از عی خوش دریں شراب مگر اندرانی کافرا
 خواں بغیرت دویرانی وطن چکنی دسیل حادثہ عالم تمام میمور است
 بظہر سبل و محوی نگر کر پند اری
 کو فتحور ملطف نخن نشان پور است

در گلشن بخت تو طرب سازی باو صدیش دنشاط و سر فرازی باو
 هر کس که ترا خیر نخواهد یار رہواره پریشان چو گل بازی باو

عہ پیغامبر مولوی چدی علی سبل کی غزل کے تجھیں ایسے زماں لمحی گئی جملہ کیوں بسیورا تھا مولوی چدی فلیں

ہمارے اجدادیں اور فارسی زبان کے بڑے اہم اسلامی مسماٹے جاتے تھے۔

آئانکہ بڑی سوچ تو گائے ہنا وہ اند
 بہر ٹکاریں ملے دامے ہنا وہ اند
 اسے دہر و طریق شالیستہ شاد باش
 بہر ہزیں بہر تو جائے ہنا وہ اند
 کن کا بیٹہ سرائیں کرمی ناوب و ست محمد حاصل صابر اسے محاب کہ
 بیا و گا رہنکش در جا کیریں تعمیر کروہ اند
 برائ کے کہ بخواں زمانہ چھانست
 رہیں منت و پابست بند احانت
 رسید خواجہ بجا گیر خوش خلق مرسود
 بیا بیا کہ ترا جائے درولی جانست
 اگرست و دم را بایں طور نویں نہیں تاریخ تعمیر محاب ہم ظاہری شود
 بہم کشید رحایا ادا چو خواجہ رسید
 ۱۳۵۲ھ = ۱۷۳۴ء
 چار او صاف بود لازمہ خدمت شاہ — بحث و برناں اکار اگھی و دانائی
 بند و پر چڑھلا صنار دہنے
 جوش شاہ بخواں بخت چون فرمائی

بداکہ کار دو عالم سبک نظم کند
 سحب حوصلہ حکم کے پہر کد ام کند
 ہمشت اسٹ از سہرت خدو گون
 ہمشت من سر علی امام کند

قطعه حب پر ایش محمدی نذر خنگ مرحوم بر بارہ رسالہ القرآن
هرست قرآن ہو جنت و فلاح گربا نداز یکیہ گوئم خوانیش
پوست را گبر ایسینی لفظ س منشد ابرداری عینی معینش

ساقی شراب پر درا از حکم در حکم ایں کمیا یا خاص را خیس ز و دقت عالم

رباعی

عالکم ہمہ جسم است تو جانی ایچاں جمبو عدن دو جہانی ایچاں
آں خوبی خود کے پر دعے عالم جھوٹ از جھوٹی خود بہ پرس گرندانی ایچاں

رباعی

بے آش عشق کیسا نے نشوی ماخوذ نشوی در دوائے نشوی

جایت بیان سخن رو یا نہ نہ ہ تک شدید دشت کر طلبے نشوی

اسے مرد نہ نے زری چہ نجح است ترا چول پنج حواس پنج گنج است ترا

ہر ہفتہ کو رنجیت لکھ محوی گہت ستر طبع رسانہ کت نجح است ترا

رباہی

دریا جو شید و قطرہ میداگر دید
بچارہ بسے برشت و محاجر دید
باش ز طن آمد و کشد ز میا پیوست به سلیمان باز دریا گردید
تضیین کی مقطع حافظہ حسب ماش سر جواہر بکنیت باز
کے ز پیر عشق تو رسنگار میاد میاد از تور ہائی وزینہار میاد
رہا ز حلقة قدرک ایں شکار میاد خلاص حافظہ از از لف تا پدرا میاد
کو بستگان کند تو رسنگار راند
تعالی از دو خر پیادل فنگار میاد قصر امداد ایں ہر دو ہیقرار میاد
رہا ز دام نظر جھوی نزار میاد خلاص حافظہ ازان لف کی بدرا میاد

ثنوی سایف

ہر کو بجا فیوق ہیر پور و داغ الہم کے جی بگر پور و
کے پسر دخیران شود کے نپے جمع پریشان شود

سلہ سر جو راجہ کش پرشاد بکنیت باشی نے اپنی ایک تصنیف میں علوم افسون کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ انکو نام عمر و مجتبی کی۔

کے دل گزش و مہر دار و
 سکے سراوز جمت درد آور و
 بہرہشم جمیں کلاش بیس ات
 جائے خدمیں خیاں بیس ات
 بہر دل آرائی و رفع طال
 شغل نہ راست بود مکال

شعر و سخن

گوکند انڈیشہ شرو سخن لالہ د مانڈھپن اندر جپن
 چشم تال چوب دیوال کند خانہ نشین سیر گلستان کند

بعضیہ حاشیہ صفحہ گزارش تھے جن میں ان کو ایک درج تھیا ہمارت محل تھی۔ بخوبیں کے تصور میاں تھیں کوئی حصہ
 خطا میں تیر اندازی اچھاں بازی تھا۔ اذانی ہمیست، نجوم، رمل، طب اور طباقی قابل ذکر ہیں۔ جب
 سر ہمارا بوجو صوفت دار الہامی کی خدمت سے علیحدہ ہو گئے تو یہاں کے عالم قاعدہ کے سطابی لوگوں نے
 ان کے پاس آنا جانا پڑھ دیا۔ سر ہمارا بوجو صوفت کے شیدائی تھے۔ ہنہائی انکے لئے عذابی تھی۔ بھی پڑیں ان طرف
 اور رنجیدہ رہتے تھے۔ بوائی نظرِ حسن تھی نے جو سر ہمارا بوجو کے بچوں کو پڑاتے تھے اور یہ سے قدیم دست تھے جو
 کہا کہ ابھی ہمارا جو نہیں وغیرہ سے ہبات تھے۔ رنجیدہ اور راستر دہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا ان جیسے شخص کا جو بہت
 علم و فتوح کے ساتھ بھیپی اور انہیں تھوڑا بہت حل کھتا ہو بیکاری اور نہایت سے گھبرا تھا جب انکیز ہے وہ اپنا تمہام

خطاطی

گاہ ز توک قلم زنگار حرف پر آرد چ گھر آپدار
 دایره و مرکز د امال بر خط خوبان خط بطلان کشد

تصویری

گاہ پ جادو گری مولتم لوچ کسند روکش باغ ارم
 طرفہ جہانے بھبھاں آور و خالق خلق است چوچا اور و

فلکیات

گاہ پ تما نظر دو رہیں صید کند طایپ گرد و نشیں
 خوار گزار در کھاک را سیر کن گبند افلاک را

بعقیدہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ وقت ان طوم اور فنوں کی تکمیل میں صرف کرکے نہایت خوٹی اور آرام کی زندگی کر رکھنے
 سعی نے لہاک اپ کا خیال تو بال صبح ہے گریہ خیال اپ ہی انکو دلائے ہیں۔ سخا کے کہنے اور اصرار سے ہر نظم کمی گئی تھی۔ برعکس
 اپنی جعلی مادت کے مطابق لیا چڑا شکر کر کر دل افسرائی فرمائی۔

بِنْجُوم

پر وہ برانداز دو آرد حیان
راز سر اپدہ مخفت آسائ

مزرا فکش دگی و برتی
خصیت هم و مه و شتری

دَل

فکر کند گر بے اصول دل
نیک پراند سحر و تیر عمل

هر کہ دریں کار بیاضت کند
از همه سوکب سعادت کند

طیاسیت

میل کند گر سوی علم بدین
رنج بچ بیس طرف کاشن

سوہ لیسے زال پر فیکار سد
صاحب هر دو بیور ماں کر

موییقی

گوش نا اگر ولب نغمہ سخ
ہر دو برو جسته نا کام و نیخ

کلخت عزم ایں بہ کام بڑ
در دو روں کل بہ نام نہ برو

چوگان پازی

گاه دم از مردی دیندال زند اسپ برگیزد و چوگان زند
گوئے دیندی ز دلیوال برد صید ز سر پچہ شیرال برد

تیر و تفنگ اندازی

ایں بنهند تیر و مکان آورد جو هر پوشیده عجیال آورد

عصر کند تنگ بشیر و ملپاگ از قدر اندازی تیر و تفنگ

لحاظی

گاه پئے اہل نہ خواں نہند بر سرخواں نعمت اواں نہند

ہست کریں دشمن پوری بست کر گر پئے خوبیگری

تصوف

گام چود راہ طریقت زند باہمہ ناموس شریعت زند

راہ دراز است پر از پیچ خشم خطرہ پا لغزدہ هر کی قدم

فائلہار فتح پس یکد گر یک دگر بخود شوریده تر

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| کس نہ شاں داد کجا جی اود | کس نہ بیاں کرو چا جی اود |
| شعلہ شوقیت کو سر میکشد | قوت جذبیت کو دریکشد |
| ذوق دریں مرحلہ ماہ سرم سفر | شوق دریں سر کہا راہ بس |
| کلفت ایں اہ زرت فرزوں | راحت دیں زر جراحت فزوں |
| نشارا میں خملدہ پائیدہ تر | تلخی ایں جام خوش آیندہ تر |
| ماہ نور وال ہمہ شغفے بیاں | عقل و خرد سو خنگھاں بے زیاں |
| بُوئے نہ خونا سب جگر جی ہند | مالیہ چو بے ساختہ سرمی ہند |
| فاغلہ ہاگر چہ رواں کر دہ اند | منزل مقصود بہناں کو کہ دہ اند |
| کس گزرے زین ہمشکل نکرو | تاد دش صاحب منزل نکرو |

خطاب

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| غشم مخوارے خواجہ عالی گھر | غشم خود آنکھ کو ندارد ہنر |
| تو کم نہ علم و نہ سر آمودہ | از تپ و تاب الم آسودہ |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| بزم پاراسخن آغاز کن | صحبت ارباب نه راز کن |
| دور فگن خصه و اندیشه را | خاص کن اصحاب نه پیشه را |
| هر طراز ای وحیدت ای اس | نکت نوازان معانی شناس |
| آنکه زهر سلم سخن آورند | حروف زهر تو دهیں آورند |
| شهره آفاق بجال پروری | نام برآورده بسام آوری |
| هر چو از کام و دهان افکند | خلغله در بزم جهان افکند |
| بهم ای صحبت آزاد باش | شاد بخور شاد بزی شاد پاش |
| جان تو از بند عرضم آزاد با د | |
| خان تو چول چال تو آباد با د | |

غلط نامہ دیوانِ محنتی

| صحيح | غلط | سرط | ضفر |
|---|------------|-----|-----|
| بڑی (بھروسٹانی) | پری | ۱۴ | ۳ |
| گدزار | گذار | ۲ | ۴ |
| زخم | کوستم | ۱۰ | ۶ |
| چول | چوں | ۱۰ | ۱۸ |
| بیمار | بیا | ۷ | ۲۳ |
| لعل شکرخا | لعل پشکرخا | ۱۶ | ۶ |
| خیزو | زاید | ۲ | ۵۲ |
| صوت | سوت | ۳ | ۵۵ |
| داد | اد | ۱۶ | ۶ |
| بازار | بادر | ۸ | ۵۶ |
| خود عرب داون می ہونا چاہیے عربی کا مصرع ہے۔ | | ۱۸ | ۹۱ |
| زور | زورو | ۱ | ۴۶ |
| شوادل شوطلج ہے۔ | | ۰ | ۶۰ |
| گرگر | گرگ | ۲ | ۸۱ |
| خانخانہ | خانمانز | ۱ | ۸۹ |
| مسجدہ گاہ | مسجدگاں | ۱۹ | ۹۲ |
| آسانت | اسکانت | ۲ | ۹۳ |
| دولت بار | درولت بار | ۱۰ | ۹۴ |
| نگاہ | نگار | ۱۰ | ۱۰۲ |
| دست | دست | ۱۱ | ۱۰۳ |
| چول | چو | ۱۲ | ۱۱۰ |

| صفحہ تحقیق | خلط | سرطان | صفحہ تحقیق |
|---|------------------------------------|-------|---------------|
| مدد و حال | مدد و حال | ۹ | ۱۱۲ |
| فٹ نوٹ چور دیا سپہے جو حسب ذیل ہے۔ | فٹ نوٹ چور دیا سپہے جو حسب ذیل ہے۔ | ۱۵ | ۱۱۸ |
| عہ ہار سے تیر کروت ہو لوی میرزا غلام صلطانی بیگ فنا | | | |
| نے مسدر جبلہ ہمدرخاب میں منا تھا۔ اسی پر منظہم کو گئی تھی | | | |
| بھر بیٹے پایاں شکستیم | بھر بیٹے پایاں شکستیم | ۰ | ۱۲۳ |
| وز در لاری | وز در لاری | ۰ | ۱۲۴ |
| ور | از | ۰ | ۱۲۵ |
| میکش | لماش | ۰ | ۰ |
| راہ گزار | رگزور | ۰ | ۱۲۶ |
| طہور | طہور | ۰ | ۱۲۷ |
| بیمار | بیمار | ۰ | ۱۲۸ |
| بیباو | بیباو | ۰ | ۱۲۹ |
| دی | دوسی | ۰ | ۱۳۰ |
| آرزو بعمر دوم | ارتند | ۰ | ۱۳۱ |
| خرنہ | خرنند | ۰ | ۱۳۲ |
| آندہ | آندہ | ۰ | ۱۳۳ |
| خالے | حدالے | ۰ | ۱۳۴ |
| ناداہ اندہ | ناداہ اندہ | ۰ | ۰ |
| جاوداں | جاویداں | ۰ | ۰ |
| چند | خط | ۰ | ۱۳۵ |
| گہ | گر | ۰ | ۱۳۶ |
| بلے تووا | بلے تووا | ۰ | ۱۳۷ |
| چرا | چر | ۰ | ۰ |
| ور | وہ | ۰ | ۰ |
| وست و | وست | ۰ | ۰ |

| مکالمہ | غلط | سرط | مجموعہ |
|--------|-------|-----|--------|
| شہری | نشہنی | ۱۰ | ۱۸۳ |
| چ | چا | ۱۵ | " |
| چرا | چد | ۱۷ | " |

مجموعہ غریبات مولوی عبد الكریم صاحب الکرم حسود پریس چارمندار کے بھروسہ ربان کے مطلع میں
طبع کے لیے دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب کو صوفیہ قدر اچھے آدمی ہیں اسی قدر ران کے مطلع کا انعام
خراب ہے اس مجموعہ کی لاکڑ کا پیاس اور پردش لغیر مرے سے پاس نہیں اور بغیر مرے معافی کے حوالی گئی ہیں اسی وجہ
کے بہت سی خلطیاں رکھی ہیں۔ بخلاف اس کے متفرقات کا جزو سجاو پریس کو ٹکہ عالیجاء میں بسن جواہے۔
الکرم مطبع مولوی برہان الدین صاحب کی توجہ اور ستمہی کی بدولت اس میں بہت کم خلطیاں ہوئی ہیں
اور اسکی طباعت محدود پریس کی بیانات میں خراب اور تباہ طباعت سے بدر جھاہبر ہے۔

ڈیباچہ

| | | | |
|------------------|--------|----|---|
| پیاروں | پیاروں | ۱۰ | ۳ |
| داعی - حاجی قمشہ | ترک | ۳ | ۴ |
| مشتوں بزدی - | لن | | |

متفرقات صہیہ و لیوا

| | | | |
|-------|-------|----|----|
| زبان | زیان | ۲ | ۲۲ |
| صرخہ | صرقد | ۷ | " |
| دُز و | دوو | ۱۸ | ۲۶ |
| ستائر | ستائر | ۱۳ | ۳۲ |
| بود | بود | ۱ | ۳۳ |
| مر | ب | ۸ | ۳۵ |
| جارے | جائے | ۵ | ۳۶ |

| صیغ | اعلیٰ | طر | معنی |
|-------------|-------------|----|------|
| زینت | زینہ | م | ۸۰ |
| مکان "گفتہ" | مکان "گفتہ" | ۳ | ۵۴ |
| باز طریقہ | از سر جھنٹ | ۸ | ۴۴ |
| ۱۹۶۱-۱۹۵۵ | ۱۹۶۱، ۱۹۵۵ | ۵ | ۴۲ |
| حاذق درا | حاذق (ا) | ۱۲ | ۴۳ |
| | | ۱ | ۴۸ |

لے کر